



اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس پر اس کی تعریف کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: یہ مومن کے لیے پیشگی خوش خبری ہے

ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ دریافت کیا گیا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس پر اس کی تعریف کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: "یہ مومن کے لیے پیشگی خوش خبری ہے" [صحیح] [اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے]

حدیث کا مفہوم: بندہ اللہ کی خاطر کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اس کا مقصد لوگوں کو دکھانا نہیں ہوتا ہے پھر لوگ اس پر اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلان شخص بہت زیادہ بھلائی کرنے والا ہے، فلان شخص بہت زیادہ نیکی کرنے والا ہے، فلان شخص مخلوق کے ساتھ بہت احسان کرنے والا ہے اور اسی طرح کی دیگر ستائش بھری باتیں کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا: "یہ مومن کے لیے پیشگی خوش خبری ہے" یعنی اس کی مدح و ستائش اس کے لیے پیشگی بشارت ہے؛ کیونکہ لوگ جب کسی شخص کی تعریف کرتے ہیں تو وہ زمین پر اللہ کے گواہ ہوتے ہیں اسی لیے جب ایک جنازہ نبی کے پاس سے گزرا اور آپ کے صحابہ کرام نے اس کا ذکر خیر کیا، تو آپ نے فرمایا: "واجب ہوگئی"، پھر ایک دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کا برے طور پر ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا: "واجب ہوگئی"، چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! کیا چیز واجب ہوگئی؟ آپ نے فرمایا کہ پہلا جنازہ کے لئے جنت واجب ہوگئی اور دوسرے کے لئے جہنم واجب ہوگئی، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو" آپ کے فرمان: "یہ مومن کے لیے پیشگی خوش خبری ہے" کا مطلب یہی ہے اس میں اور ریاکاری میں فرق ہے کہ ریاکار شخص عمل ہی اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر اس کی تعریف کریں، اس صورت میں وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے جب کہ اس دوسرے شخص کی نیت خالصتاً اللہ عزوجل کے لئے ہوتی ہے اور اس کے ذہن میں یہ خیال تک نہیں گزرتا کہ لوگ اس کی تعریف یا برائی کریں اب اگر لوگوں کو اس کے نیک اعمال کا علم ہو جائے اور وہ اس پر اس کی مدح و ستائش کریں تو یہ ریا کاری نہیں ہے، بلکہ پیشگی خوش خبری ہے اس کے اور حدیث میں جس صورت کا بیان ہے اس کے مابین بڑا فرق ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/8900>